

اچھی غذائیت معنی رکھتی ہے



آپ جو کھاتے اور اسٹیکس فراہم کرتے ہیں اس
کی ادائیگی کے لیے آپ کا سنٹر اہل ہو سکتا ہے۔

CACFP
Child and Adult Care Food Program
New York State Department of Health

CACFP
Child and Adult Care Food Program
New York State Department of Health

150 Broadway, Room 600
Albany, NY 12204
1-800-942-3858 (صرف نیو یارک میں)
(518) 402-7251
فیکس (518) 402-7252
cacfp@health.ny.gov
health.ny.gov/CACFP

یہ ادارہ ایک مساوی موقع فراہم کنندہ ہے۔

ہمیں اس پر فالو کریں:
health.ny.gov
facebook.com/NYSDOH
twitter.com/HealthNYGov
youtube.com/NYSDOH



ریکارڈ رکھنے کے تقاضے کیا ہیں؟

آپ حاضری، پیش کردہ کھانوں کی تعداد، مینو اور تیار شدہ
غذا کی مقدار، نیز خریدی ہوئی غذا کی رسیدوں کے یومیہ
ریکارڈ سنبھال کر رکھیں گے۔ عام طور پر، آپ آمدنی کی
اہلیت کی درخواستیں سنبھال کر رکھیں گے۔

مجھے کب درخواست دینی چاہیے؟

جب آپ کے پاس یومیہ نگہداشت کا پروگرام آپریٹ کرنے
کی منظوری ہو اور آپ شرکاء کا اندراج کرنا شروع کر
رہے ہوں۔ درخواستیں کبھی بھی قبول کی جاتی ہیں۔

میں کس طرح درخواست دوں؟

درخواست کی گزارش کرنے کے لیے
<https://pns.health.ny.gov> پر جائیں یا
CACFP سے **1-800-942-3858** پر رابطہ کریں۔
عملہ کا ایک ممبر یہ یقینی بنانے کے لیے معلومات حاصل
کرے گا کہ آپ کا پروگرام اہل ہے۔ حسب ضرورت بنائی گئی
ایک درخواست تکمیل کے لیے آپ کو ای میل کی جائے گی۔



کس قسم کے پروگرام اہل ہیں؟

- 12 سال اور اس سے کم عمر کے بچوں اور 15 سال اور اس سے چھوٹی عمر کے تارک وطن بچوں کی خدمت انجام دینے والے لائسنس یافتہ نگہداشت طفل کے مراکز۔
- 13 سال تک کی عمر کے بچوں کی خدمت انجام دینے والے اسکول کے بعد کے پروگرام، پروگراموں کا لائسنس یافتہ/ رجسٹرڈ ہونا یا لائسنس دہندگی/ رجسٹریشن سے مستثنی ہونے کا تعین ہونا ضروری ہے۔
- 12 سال سے زائد عمر کے نوعمروں کے لیے اسکول کے بعد کے پروگرام اگر کم آمدنی والے علاقے میں واقع ہوں تو وہ اہل ہیں۔
- عملی لحاظ سے معذور شرکاء یا 60 سال اور اس سے زائد عمر کے بالغوں کی خدمات انجام دینے والے بالغوں کے لیے یومیہ نگہداشت کے پروگرام۔ بالغوں کے لیے یومیہ نگہداشت کے پروگراموں کے پاس ریاستی یا مقامی ایجنسی سے آپریٹ کرنے کی منظوری ہونا ضروری ہے۔
- والدین یا سرپرست کے ساتھ رہنے والے 19 سال کی عمر کے بچوں کی خدمت انجام دینے والی ہنگامی پناہ گاہیں۔ پناہ گاہوں کے پاس ریاستی یا مقامی ایجنسی سے آپریٹ کرنے کی منظوری ہونا ضروری ہے۔



CACFP کے فائدے کیا ہیں؟

یومیہ نگہداشت کے شرکاء کے لیے کھانے اور/یا اسنیکس کے لیے باز ادائیگی ہر ماہ کی جاتی ہے۔ رجسٹرڈ ماہرین تغذیہ، اکاؤنٹنٹس اور CACFP کا دیگر عملہ صحت بخش خوراک کا منصوبہ بنانے اور پروگرام کے تقاضے پورا کرنے میں آپ کی اعانت کرے گا۔

مجھے کتنی باز ادائیگی موصول ہوگی؟

باز ادائیگی کی مقدار کا تعین پیش کردہ کھانے کی قسم کے لحاظ سے کیا جاتا ہے۔ نیز، کم آمدنی والے گھرانوں کو خدمت پیش کرنے والے مراکز کو زیادہ باز ادائیگی موصول ہوتی ہے۔

کھانے کے تقاضے کیا ہیں؟

- ناشتہ جو دودھ، سبزی یا پھل، اور اناج یا بریڈ پر مشتمل ہوتا ہے۔ آپ ہفتے میں تین بار تک اناج یا بریڈ کی جگہ پر گوشت یا گوشت کا متبادل پیش کر سکتے ہیں۔
- لٹچ اور سپر میں دودھ، بریڈ یا اناج، گوشت یا گوشت کے متبادل، دو سبزیاں، یا سبزی اور پھل ضروری ہیں۔
- اسنیک میں درج ذیل میں سے دو چیزیں شامل ہوتی ہیں: دودھ، گوشت یا گوشت کا متبادل، بریڈ یا اناج، سبزی یا پھل۔



چائلڈ اینڈ ایڈلٹ کیئر فوڈ پروگرام

کیا آپ کے پاس نگہداشت طفل مرکز، اسکول کے بعد کا پروگرام، ہنگامی پناہ گاہ یا بالغوں کے لیے یومیہ نگہداشت کا پروگرام ہے؟ صحت بخش کھانے پیش کرنے میں مدد درکار ہے؟

نیو یارک اسٹیٹ کے محکمہ صحت کا چائلڈ اینڈ ایڈلٹ کیئر فوڈ

پروگرام (Child and Adult Care Food Program, CACFP)

13 سال (کچھ پروگراموں کے لیے 19 سال) تک کی عمر کے بچوں اور نگہداشت میں اندراج یافتہ بالغوں کو پیش کر دہ کھانے اور اسنیکس کے لیے ادائیگی کرتا ہے۔ بیشتر پروگرام اہل ہیں - چھوٹے سے نگہداشت طفل کے مراکز سے لے کر بڑی سی کمیونٹی سروس کی تنظیموں تک؛



اہل تنظیمیں وہ ہیں جن کے لیے انٹرنل ریونیو سروس، پبلک اسکولز، یا دیگر سرکاری ادارے سے ٹیکس سے مستثنیٰ حالت ((عموماً 3(c)501)) منظور کی گئی ہو۔
اگر کم از کم 25% شرکاء کم آمدنی والے ہوں تو منفعی تنظیمیں اہل ہیں۔